

5 ستمبر 2018

## ووٹنگ والے دن اپنا وقت بچانا چاہتے ہیں؟ تو ووٹر لسٹ ابھی چیک کر لیں۔

برامپٹن، آن - سٹی آف برامپٹن تمام اہل ووٹ دہندگان سے گزارش کرتا ہے کہ وہ یہ تسلی کر لیں کہ ان کا نام ووٹر لسٹ میں موجود ہونا چاہیے۔ 2018 کے برامپٹن میونسپل الیکشن میں ووٹ ڈالنے کے لیے اہل ووٹ دہندگان کے نام ووٹر لسٹ میں لازمی موجود ہونے چاہیں۔

یہ کام نہایت آسان ہے۔ لسٹ میں اپنا نام چیک کرنے کے لیے، [سٹی کی ویب سائٹ](#) پر جائیں، "کیا میں ووٹر لسٹ میں موجود ہوں (Am I "on the Voters' List") پر کلک کریں اور اپنا نام، تاریخ پیدائش اور پتہ درج کریں۔ آپ آن لائن طور پر اپنی معلومات کی تصدیق یا اسے اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کا نام شامل نہ ہو، تو رجسٹر بھی کروا سکتے ہیں۔ آن لائن رجسٹریشن کی سہولت مورخہ 13 اکتوبر تک رات 11:59 تک دستیاب رہے گی۔

اہل ووٹ دہندگان سٹی ہال میں موجود سٹی کلرک آفس میں تشریف لا کر بھی لسٹ میں اپنا نام چیک کر سکتے ہیں اور اگر کوئی تبدیلی ضروری ہو، تو وہیں پر اس کے لیے درخواست فارم بھی مکمل کر سکتے ہیں۔ ووٹ دہندگان کسی بھی ایڈوانس ووٹنگ لوکیشن پر یا ووٹنگ والے دن بھی فارم کو مکمل کر سکتے ہیں۔

پیٹر فے، سٹی کلرک اور 2018 برامپٹن میونسپل الیکشن کے لیے ریٹرننگ آفیسر نے کہا کہ "ووٹرز لسٹ کو اپ ٹو ڈیٹ کرنا تمام ووٹ دہندگان کے لیے فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ سے ووٹ دہندگان کے وقت کی بچت ہوتی ہے اور ووٹنگ کے عمل میں بہتری آتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ "تمام ووٹ دہندگان سے میری گزارش ہے کہ وہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام ضرور چیک کریں - بیشک انہوں نے پچھلے الیکشن میں ووٹ بھی دیا ہو، کوئی شخص حال ہی میں برامپٹن میں منتقل ہوا ہو یا 22 اکتوبر سے پہلے اس کی عمر 18 سال ہو گئی ہو۔"

اگر آپ کینیڈا کے شہری ہیں، ووٹنگ والے دن آپ کی عمر کم از کم 18 سال ہے اور آپ برامپٹن میں رہائش پذیر ہیں (یا آپ یا آپ کا جیون ساتھی برامپٹن میں موجود کسی پراپرٹی کا مالک یا کرایہ دار ہے)، تو آپ ووٹ دینے کے لیے اہل ہیں۔

### لنکس

- [چیک کریں کہ آیا آپ کا نام ووٹر لسٹ میں ہے](#)
- [ووٹنگ کے بارے میں جاننے کی 5 لازمی چیزیں](#)
- [پراکسی ووٹنگ کے بارے میں سٹی کی ویب سائٹ](#) پر مزید معلومات دستیاب ہے۔

30--

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں [ووٹر](#) اور [فیس بک](#) پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا ریلیشنز

سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654